

زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے سے مربوط بعض دوسرے احکام

<"xml encoding="UTF-8?">

زکوٰۃ فطرہ کا مصرف

زکوٰۃ فطرہ ادا کرنے سے مربوط بعض دوسرے احکام

مسئلہ 2669: اگر کسی جنس کی قیمت اس کی معمولی قسم سے دُگنی ہے مثلاً ایسے گندم سے جس کی قیمت معمولی گندم کی قیمت کے دو برابر ہے آدھا صاع فطرہ دیں تو یہ کافی نہیں ہے بلکہ اگر وہ آدھا صاع فطرہ کی قیمت کی نیت سے دے تو بھی کافی نہیں ہے۔

مسئلہ 2670: انسان آدھا صاع ایک جنس سے مثلاً گندم کا اور آدھا صاع کسی دوسری جنس سے مثلاً چاول فطرہ کے طور پر نہیں دے سکتا ہے بلکہ اگر فطرہ کی قیمت کی نیت سے دے تو بھی کافی نہیں ہے۔ لیکن اگر کئی لوگوں کا فطرہ دے رہا ہے تو لازم نہیں ہے ہر ایک کا فطرہ ایک ہی جنس سے دے مثلاً اگر بعض کا فطرہ گیہوں اور بعض دوسرے لوگوں کا فطرہ چاول سے دے تو کافی ہے۔

مسئلہ 2671: گیہوں یا کوئی دوسری چیز جو فطرہ کے لیے انسان دے رہا ہے ضروری ہے کہ اس میں کوئی دوسری چیز یا مٹی نہ ملی ہو اور اگر ملی ہو اور اس کا خالص ایک صاع تک پہنچ جائے اور الگ کئے بغیر استعمال کر سکتا ہو یا اس کو جدا کرنے میں حد سے زیادہ زحمت نہ ہو یا وہ اتنی کم مقدار میں ہو کہ قابلِ توجہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔

مسئلہ 2672: اگر کوئی عیب دار چیز بطور فطرہ دے تو احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔

مسئلہ 2673: انسان پر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ حلال مال سے دینا ضروری ہے اگرچہ اپنے اور اپنے اہل و عیال کے خرچ کو پورا کرنے کے لیے گناہ کیا ہو اور اس کو حرام مال سے پورا کرتا ہو۔

مسئلہ 2674: اگر انسان کے پاس ایسا مال ہو جس کی قیمت فطرہ سے زیادہ ہو تو اگر وہ فطرہ نہ دے اور نیت کرے کہ اس مال کی کچھ مقدار فطرہ کے لیے ہوگی تو احتیاط واجب کی بنا پر کافی نہیں ہے۔

مسئلہ 2675: اگر انسان اس خیال سے کہ کوئی فقیر ہے اس کو فطرہ دے اور بعد میں معلوم ہو کہ فقیر نہیں تھا تو جو مال اس کو دیا ہے اگر ختم نہ ہو گیا ہو تو ضروری ہے واپس لے اور مستحق کو دے اور اگر واپس نہ لے سکتا ہو تو ضروری ہے خود اپنے مال سے فطرہ کا عوض دے اور اگر وہ مال ختم ہو گیا ہو جب کہ فطرہ لینے والا جانتا ہو کہ جو کچھ لیا ہے وہ فطرہ ہے تو ضروری ہے اس کا عوض دے اور اگر نہ جانتا ہو تو اس کا عوض دینا واجب نہیں ہے اور ضروری ہے انسان فطرہ کا عوض دے۔

مسئلہ 2676: ضروری ہے انسان فطرہ کو قصد قربت سے یعنی خداوند متعال کی بارگاہ میں عاجزی اور بندگی کا اظہار اور خلوص کے ساتھ دے اور اسے دیتے وقت فطرہ کی نیت کرے اور اگر بغیر قصد قربت یا اخلاص کی

رعايت كئے بغير فطره دے تو كافى ہے اور زكوٰة فطره شمار ہوگا گرچہ قصد قربت اور اخلاص كى رعايت نہ كرنے كى وجہ سے گناہ گار ہے۔

مسئلہ 2677: اگر كوئى شخص رمضان سے پہلے فطره دے تو صحيح نہيں ہے ليكن وہ ماہ رمضان ميں فطره دے سكتا ہے گرچہ احتياط مستحب يہ ہے كہ ماہ رمضان ميں بھى فطره نہ دے اور فطره دينے ميں عيد فطر كى رات تك تاخير كرے ليكن اگر كوئى رمضان سے پہلے كسى فقير كو قرض دے اور اس كے بعد اس پر فطره واجب ہو اور وہ فقير ابھى بھى فطره لينے كا مستحق ہو تو اپنے قرض كو فطره كے طور پر حساب كر سكتا ہے۔

مسئلہ 2678: جو شخص نماز عيد الفطر پڑھنے كا قصد ركھتا ہو احتياط واجب كى بنا پر ضرورى ہے نماز عيد سے پہلے فطره دے اور اگر نماز عيد فطر پڑھنے كا قصد نہ ركھتا ہو تو عيد كے دن ظہر كى اذان سے پہلے تك فطره دينے ميں تاخير كر سكتا ہے۔

مسئلہ 2679: اگر فطره كى نيت سے اپنے مال كى كچھ مقدار كو جدا كرلے اور عيد فطر كے دن ظہر تك مستحق كو نہ دے تو جس وقت اُسے دے ضرورى ہے فطره كى نيت كرے اور جداكيے ہوئے فطره كو دينے ميں تاخير كرنا اگر كسى معقول غرض كى وجہ سے ہو اور فطره كو دينے ميں لاپرواہى شمار نہ ہو تو حرج نہيں ہے اس بنا پر اگر كسى معين فقير كو دينے كے ليے الگ كرے اور اس فقير تك رسائى فى الحال ممكن نہ ہو مثلاً يہ كہ فقير سفر پر ہو تو فطره كو دينے ميں تاخير كر سكتے ہيں۔

مسئلہ 2680: اگر كوئى شخص عيد فطر كے دن ظہر كى اذان تك فطره نہ دے اور جدا بھى نہ كرے تو اس كے بعد احتياط واجب كى بنا پر ادا اور قضا كى نيت كيے بغير مافى الذمہ كى نيت سے فطره دے۔

مسئلہ 2681: اگر كوئى شخص فطره كو جدا كرے اپنے ليے اسے لے كر دوسرا مال اس كى جگہ پر نہيں ركھ سكتا۔

مسئلہ 2682: اگر كسى شخص نے جو مال فطره كے طور پر جدا كيا ہو وہ تلف ہو جائے تو اس كے تلف ہونے كا حكم زكوٰة مال كے تلف ہونے كى طرح ہے جس سے مربوط احكام كى تفصيل مسئلہ نمبر 2625 ميں بيان ہو چكى ہے۔

مسئلہ 2683: اما م عليه السلام يا ان كے نائب خاص يا ان كے نائب عام يعنى حاكم شرع كے پاس فطره كو منتقل كرنا جائز ہے اگرچہ اس كام كو انجام دينے كے ليے مجبور ہو كہ اس كو دوسرے شہر ميں لے جائے اور يہ اس وقت ہے كہ جب انسان كے شہر ميں جس ميں وہ سكونت ركھتا ہے (وہ جگہ جہاں پر فطره كو الگ كيا ہے) زكوٰة كا مستحق موجود ہو۔ اور اس مقام كے علاوہ اگر انسان اپنے شہر يا محلہ ميں مستحق پيدا كرے تو احتياط واجب يہ ہے كہ فطره كو دوسرى جگہ نہ لے جائے ليكن اگر لے كيا ہو اور مستحق تك پہونچايا ہو تو كافى ہے اور دوبارہ فطره دينے كى ضرورت نہيں ہے اور اگر احتياط واجب كے خلاف عمل كرے اور كسى دوسرى جگہ لے جاتے وقت تلف ہو جائے تو ضرورى ہے اس كا عوض دے۔

مسئلہ 2684: فقير پر زكوٰة فطره دينا واجب نہيں ہے ليكن مستحب ہے كہ فطره دے اور اگر صرف ايك

صاع (تقریباً ۳ کلو) گندم اور اس جیسی کوئی چیز فقیر کے پاس ہو اور اس کے نان خور افراد بھی ہوں، مثلاً اس کے اہل و عیال بھی ہوں۔ اور وہ ان کا فطرہ بھی دینا چاہتا ہو تو وہ ایسا کر سکتا ہے کہ فطرہ کی نیت سے ایک صاع اپنے اہل و عیال میں سے کسی ایک کو دے اور وہ بھی اسی نیت سے دوسرے کو دے اور اسی طرح دیتا رہے یہاں تک آخری شخص تک پہنچے اور بہتر ہے جو چیز آخری فرد کو ملے وہ فطرہ کے قصد سے کسی ایسے شخص کو دے جو ان لوگوں میں سے نہ ہو۔

اور اگر ان میں سے کوئی بچہ یا دیوانہ ہو تو اس کا ولی اس کی جگہ فطرہ کو لے اور احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کے قصد سے نہ لے بلکہ ولی اس کو اپنے لیے لے اور جو کچھ اپنے لیے لیا ہے اسے بچہ یا دیوانہ کے فطرہ کے طور پر دوسرے کو دے۔

مسئلہ 2685: انسان کے لیے مستحب ہے کہ فطرہ کو دینے میں اپنے فقیر رشتہ دار اور عزیز اور ہمسایہ کو دوسروں پر مقدم رکھے اور سزاوار ہے کہ اہل علم اور دین دار کو فطرہ دینے میں دوسروں پر مقدم کرے۔

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمُ وَالْعَنِ اَعْدَاءَهُمُ اَجْمَعِينَ